



سوال

(783) مرد کے لیے ہاتھ اور پاؤں کو مہندی لگانے کا حکم

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مرد کے لیے ہاتھ اور پاؤں کو مہندی لگانے کا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ (محمد یونس شاکر)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

نہیں لگا سکتا۔ البوداؤد میں حدیث موجود ہے۔

”عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط بڑھایا۔ پس نبیؐ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اور فرمایا: میں نہیں جانتا یہ کسی مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا۔ اس نے کہا: بلکہ یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ فرمایا: اگر تو عورت ہے تو تجھے اپنے ناخن تبدیل کرنے چاہئیں تھے۔ یعنی مہندی کے ساتھ۔“ 4 (مطلب یہ کہ مرد اور عورت کے ہاتھ ممتاز اور مختلف ہوں۔)

”عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ نے کہا: اے نبی اللہ! مجھے بیعت فرمائیے۔ نبیؐ نے فرمایا: میں تجھ سے بیعت نہ لوں گا، جب تک کہ تو اپنے ہاتھوں کو تبدیل نہ کرے۔ گویا کہ وہ درندوں کی دو ہتھیلیاں ہیں۔“ 5 (اس حدیث کی رو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مہندی لگانے کا حکم دیا تاکہ ان کی مردوں کے ساتھ مشابہت نہ رہے۔)

4 البوداؤد، کتاب التزہل، باب فی الخضاب للنساء

5 البوداؤد، کتاب التزہل، باب فی الخضاب للنساء۔ ابن ماجہ، کتاب الطب، باب الخناء

قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل



مجلس البحث والدراسات
محدث فتویٰ

جلد 02 ص 762

محدث فتویٰ